

THE SYMBOL OF QUALITY FOR TREATMENT



The Valuable and
most Effective
Synergistic
Combination of
Antibiotic &
Aanalgesic

Oxytetracycline as dihydrate (BP)
Flunixin as Meglumine (BP)

Nimtol

INJECTION

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Nimtol

INJECTION

Composition: Each ml of injection contains:
Oxytetracycline as dihydrate (BP) 300mg
Flunixin as Meglumine (BP) 20mg
(Mfg. Nawan Specs.)

Description: Nimtol Injection is an excellent combination of effective antibiotic with strong analgesic. The antibiotic belongs from the class of tetracycline group and analgesic belongs from NSAID. Nimtol has antibacterial activity against Gram positive and Gram negative bacteria.

Indications: Nimtol Injection is effective against Pyrexia, Intestinal inflammation, Bovine respiratory disease, Mastitis, Coughing, Haemorrhagic septicemia and Diphtheria. Nimtol Injection has a wide spectrum activity against organisms such as Pasteurella spp, Corynebacterium pyogenese, Staphylococcus aureus and Mycoplasma. Nimtol is recommended for wound and uterine infections also.


Dosage and Administration: Administer by deep intra-muscular injection.
● 1ml/10kg of body weight.

Contraindications: Do not use in animals showing hypersensitivity to Flunixin Meglumine and Oxytetracycline.

Withdrawal Periods: Meat: 21 days.

Storage Conditions: Store below 30°C. Protect from light. Keep away from heat, light & children.

Packing: 50ml



نمٹول انجکشن

کلیہ: ایک ملی لیٹر میں موجود ہے۔

اوکسی ٹیٹراسائیکلین بطور ڈائی ہائٹریٹ ۳۰۰ ملی گرام

فلونیکسن بطور میگلو مین ۲۰ ملی گرام

علامات: نمٹول انجکشن آنتوں کی سوزش، نمونیا، اسہال، تھنوں کی سوزش، بخار،

کھانسی، گل کوٹھوا اور زخمی امراض کے خلاف مؤثر ہے۔

مزید برآں نمٹول انجکشن درد، سوزش اور جانوروں میں پچھدانی کے امراض میں بہترین علاج ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال: املی لیٹر ۱۰ کلوگرام وزن کے مطابق پٹھوں میں صرف ایک مرتبہ لگائیں۔

ود ڈرال کا عرصہ: گوشت: ۲۱ دن۔

ہدایات: دوا کو ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر پتھوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

دوا کو کھولنے کے بعد ۲۸ دن کے اندر استعمال کر لیں۔

پیکنگ: ۵۰ ملی لیٹر

MANUFACTURED BY:

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT) LTD.

136, Sector 15, Korangi Industrial
Area, Karachi-Pakistan.
Tel+ 92 21 35065835-7
Web: www.nawanlab.com